

Home Economics 6th Class Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	ہر انسان کے لیے امن و سکون کا ذریعہ ہوتا ہے	A. باہر B. گھر C. جنگل D. بازار
2	روزمرہ خوراک میں اناج اور دالوں کے گروہ کو شامل کرنا چاہیے	A. دو سے تین مرتبہ B. چار سے چھ مرتبہ C. پانچ سے دس مرتبہ D. دس سے پندرہ مرتبہ
3	بچوں کی گفتگو کو بہتر بنانے کا بہترین ذریعہ ہے	A. رونا B. کہیں C. سونا D. ڈانٹ ڈپٹ
4	امریکہ کے ایک شہر میں کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بوم اکنامکس کو ایک باقاعدہ مضمون کا نام دیا گیا	A. 1899 B. 1980 C. 1890 D. 1990
5	معمولی سے معمولی چیز سے بھی پیدا کی جاسکتی ہے	A. بدصورتی B. خوبصورتی C. نشواری D. بیزاری
6	بچہ کھیلنا پسند کرتا ہے	A. تین سال کے بعد B. دو سال کے بعد C. دس سال کے بعد D. پانچ سال کے بعد
7	ادھیڑ عمر کا دور ہوتا ہے	A. سال سے لیکر آخری سائیس تک 60 B. چالیس سے ساٹھ سال تک C. تیس سے چالیس سال تک D. سو سال تک
8	بوم اکنامکس کے ابتدائی اسکولوں کا نام دیا گیا	A. ہائی اسکولوں کا B. ٹیم اسکولوں کا C. فیشننگ اسکولوں کا D. ایلیمنٹری اسکولوں کا
9	ٹیزائن کے مقاصد ہیں	A. دو B. تین C. چار D. پانچ
10	موٹے اور گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں	A. سردیوں میں B. گرمیوں میں C. بہار میں D. ہلکی گرمیوں میں
11	ایسے زرائع و وسائل ہیں جو فطری طور پر انسان میں موجود ہیں	A. مادی B. غیر مادی C. سرمایہ کے زرائع D. تمام زرائع
12	وہ تبدیلی جو دیگر افراد کے ساتھ میل جول سے پیدا ہوتی ہے کہلاتی ہے	A. حرکی نشوونما B. زہنی نشوونما C. جذباتی نشوونما D. معاشرتی نشوونما
13	بوم اکنامس کا مطلب سائنس اور آرٹ کے علوم کو خاندان کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے	A. بقول انیبول اسبے فورڈ B. بقول پارکر C. بقول فرائیڈ D. بقول الفرید نوبل
14	صحت مند جسم کے لیے غسل کرنا بے حد ضروری ہے	A. روزانہ B. کبھی کبھار C. مہینے میں D. ہفتے بعد
15	گوشت کے گروہ میں شامل ہیں	A. مالتے اور انگور B. چھٹی اور ٹیل روٹی C. مچھلی اور لٹے D. جام ، مکھن

16	تعلق کا اصول کہلاتا ہے	A. توازن B. ہم آہنگی C. تناسب D. تسلسل
17	اس دنیا کی ہر چیز میں رونق اور دلچسپی ہے	A. اندھیرے کی وجہ سے B. رنگوں کی وجہ سے C. مٹی کی وجہ سے D. گندے پانی کی وجہ سے
18	ہر وہ چیز جس سے خوبصورتی کا احساس پیدا ہو کہلاتی ہے	A. سائنس B. آرٹ C. عمرانیات D. بدصورتی
19	نشوونما کے دوران پیدا ہونے والی تبدیلیاں جسمانی اور دماغی ہوتی ہیں جو جاری رہتی ہیں	A. ادھی عمر B. چوتھائی عمر C. ساری عمر D. ادھیڑ عمر
20	جسم کے پٹھوں میں مضبوطی آتی ہے	A. کم خوراک کھانے سے B. بہتر خوراک کھانے سے C. خراب خوراک کھانے سے D. ملاوٹ والی خوراک کھانے سے